

۹۔ حُبُّ الْوَطَنِ

إِنِّي الْيَوْمَ صَغِيرٌ أَدْرُسُ الْعِلْمَ الثَّمِينِ
 كَيْ تَرَى مِنِّي بِلَادِي فِي غَدٍ خَيْرَ مُعِينِ
 أَيْنَمَا كُنْتُ فَقَلْبِي دَائِمًا يَهْفُو إِلَيْهَا
 كَيْفَ لَا أَعْشَقُ أَرْضًا عَاشَ أَجْدَادِي عَلَيْهَا؟
 كُلُّ مَا فِيهَا جَمِيلٌ مِنْ سُهُولٍ وَ جِبَالِ
 جَوْهَا صَافٍ بَدِيعٌ مَاؤُهَا عَذْبٌ زَلَالِ
 يُنْعِشُ النَّفْسَ هَوَاهَا فَهُوَ لِلنَّفْسِ شِفَاءِ
 لِنَعِشَ تَحْتَ سَمَاهَا فِي وِفَاقٍ وَ إِخَاءِ

خلاصہ : اس نظم میں شاعر وطن سے محبت کا پیغام دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرا دل ہمیشہ اس کی محبت سے لبریز ہے۔ میرے ملک سے میرے آباؤ اجداد نے محبت کی اور اس میں رہنا پسند کیا۔ میرے ملک کی وادیاں، پہاڑ، ندیاں غرضیکہ ہر چیز حسین و جمیل ہے۔ اس کی ہوا، پانی اور مٹی سب کچھ بہتر اور خوش نمایں۔ جس کے ذریعے بیمار دل کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے ذرے ذرے سے محبت کریں اور اس ملک کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں۔

***** الْكَلِمَاتُ وَالْمَعَانِي - الفاظ و معانی - Glossary *****

Learn	سیکھنا	دَرَسَ يَدْرُسُ دَرَسًا
So that, with the aim of	تاکہ	كَيْ
Tomorrow	آنے والا کل	غَدٌ
Cooperator, supporter	مددگار	مُعِينٌ
Wherever	جہاں کہیں	أَيْنَمَا
Forever	ہمیشہ	دَائِمٌ
Beating of heart with passion	(دل) دھڑکنا، راغب ہونا	هَفَا يَهْفُو هَفْوًا - الْقَلْبُ

Forefathers, ancestors	آبا و اجداد	أَجْدَادٌ وَ: جَدُّ
Plain land, soft soil	میدان، نرم و ہموار زمین	سَهْوَلٌ
Wonderful, Good	عمدہ، اچھوتا	بَدِيعٌ
Sweet	میٹھا	عَذْبٌ
Sweet pure water	صاف میٹھا پانی	زُلَّالٌ
Revitalise	حیات بخش ہونا	أَنْعَشَ يُنْعِشُ أَنْعَاشًا
Unity	اتحاد	وِفَاقٌ
Brotherhood	بھائی چارہ	إِخَاءٌ

التَّمْرِينُ - مشق - Exercise

۱. اُكْمِلِ الْأُبَيَاتِ التَّالِيَةَ. درج ذیل اشعار مکمل کیجیے۔
Complete the following couplets.

۱. كَيْفَ لَا أَعْشَقُ أَرْضًا

۲. فَهُوَ لِلنَّفْسِ شِفَاءٌ

۲. أَجِبِ الْأَسْئَلَةَ التَّالِيَةَ. درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔
Answer the following questions.

۱. مَا يَهْفُو إِلَى الْوَطَنِ؟

۲. مَنْ عَاشَ عَلَى أَرْضِ الْوَطَنِ؟

۳. كَيْفَ جَوُّ الْوَطَنِ؟

۳. اكْمِلِ الْأَعْمَالَ التَّالِيَةَ. درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔
Complete the following activities.

۱. اُكْتُبْ صِفَةَ الْعِلْمِ.

۲. اُكْتُبْ كَلِمَاتِ الْجَمْعِ مِنَ النَّظْمِ.

۳. اُكْتُبْ صِفَةَ الْهَوَاءِ.

Additional Information - اضافی مطالعہ - الدِّرَاسَةُ الْإِضَافِيَّةُ

انٹرویو اور ملازمت کے سلسلے میں استعمال ہونے والے چند الفاظ ان کے معنی کے ساتھ دیے جا رہے ہیں۔

Some words used in interviews and services are mentioned below with their meanings.

Interview	انٹرویو	مُقَابَلَةٌ -
Job	ملازمت	وَضِيفَةٌ -
Achievement	کامیابی	إِنْجَازٌ -
Certificate	سرٹیفکیٹ، سند	شَهَادَةٌ -
Cirruculum Vitae	بائیوڈاٹا	السِّيَرَةُ الذَّاتِيَّةُ -
Communication skills	مواصلاتی ہنر	الْمَهَارَاتُ الْحَوَارِيَّةُ -
To Dismiss	برخواست کرنا	الْإِجْبَارُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ -
Fired	برخواست کیا ہوا	مَطْرُودٌ مِنْ عَمَلِهِ -
Job Candidate	امیدوار ملازمت	مُرَشَّحٌ لَوَضِيفَةٍ -
Package, fees	مشاہرہ، پیکیج	الْكَرَاتِبُ -
Personal Experience	ذاتی تجربہ	الْخِبْرَةُ الذَّاتِيَّةُ -
Personal Qualities	ذاتی خوبیاں	صِفَاتُ شَخْصِيَّةٍ -
Punctual	پابند	دَقِيقٌ فِي الْوَقْتِ -
Qualification	علمی صلاحیت	الْأَهْلِيَّةُ الْعِلْمِيَّةُ -
Requirement	ضروریات	مُتَطَلِّبَاتٌ -
Resign	استعفیٰ دینا	يَسْتَقِيلُ، يَتْرُكُ الْعَمَلَ بِرَغْبَتِهِ -
Skill	ہنر	مَهَارَةٌ -
Strength	مثبت پہلو	نِقَاطُ الْقُوَّةِ -
Weakness	منفی/ کمزور پہلو	نِقَاطُ الضَّعْفِ -

Additional Information - اضافی مطالعہ - الدِّرَاسَةُ الْإِضَافِيَّةُ

Some useful sentences for routine life.

روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے چند مفید جملے۔

It's an emergency.

یہ ایک ایمرجنسی ہے۔

I have lost my passport.

میں نے اپنا پاسپورٹ کھو دیا ہے۔

I have lost my bag.

میں نے اپنا بستہ کھو دیا ہے۔

Where is the nearest police station?

سب سے قریب پولس چوکی کہاں ہے؟

Where is the Indian embassy?

ہندوستانی سفارت خانہ کہاں ہے؟

Where is the nearest hospital?

قریب ترین اسپتال کہاں ہے؟

Call a doctor!

ڈاکٹر کو بلائیے۔

Call an ambulance!

ایمبولنس کو بلائیے۔

Can you help me?

کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟

Is there any medical store nearby?

کیا کوئی دوا فروش کی دکان قریب میں ہے؟

Please call the police.

براہ مہربانی، پولس کو فون کیجیے۔

I need a doctor.

مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔

I have been attacked.

مجھ پر حملہ ہوا ہے۔

I would like to report a theft.

میں چوری کی رپورٹ کرنا چاہتا ہوں۔

Call the fire brigade.

فائر بریگیڈ کو فون کیجیے۔

There has been an accident.

ایک حادثہ پیش آیا ہے۔

Can someone call emergency number?

کیا کوئی ایمرجنسی نمبر پر فون کر سکتا ہے؟

Be careful.

احتیاط کرو۔

Hurry up!

جلدی کرو۔

إِنَّهَا حَالَةٌ طَارِئَةٌ

لَقَدْ فَقَدْتُ جَوَازَ سَفَرِي

لَقَدْ فَقَدْتُ مَحْفَظَتِي

أَيْنَ أَقْرَبُ قِسْمِ شُرْطَةٍ؟

أَيْنَ السَّفَارَةُ الْهِنْدِيَّةُ؟

أَيْنَ أَقْرَبُ مُسْتَشْفَى؟

أَطْلُبِ الطَّبِيبَ!

أَطْلُبِ إِسْعَافًا!

مُمْكِنٌ تَسَاعِدُنِي؟

هَلْ أَيْ صَيْدَلِيَّةٍ قَرِيبَةً؟

مَنْ فَضْلِكَ اتَّصِلْ بِالشُّرْطَةِ.

أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى دُكْتُورٍ.

لَقَدْ تَمَّتْ مُهَاجَمَتِي.

أَوَدُّ أَنْ أُخْبَرَ جَرِيْمَةَ سَرَقَةٍ.

اتَّصِلْ بِالْإِطْفَاءِ.

لَقَدْ وَقَعَ حَادِثٌ.

هَلْ يُمَكِّنُ الْإِتِّصَالُ بِرَقْمِ

الطَّوَارِي؟

كُنْ حَذِرًا

أَسْرِعْ!